

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پر حزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تاثیر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑو سی برادر اسلامی ملک ہونے کے نتائے جاتی تاریخی، ثقافتی، سماجی رشتہوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے انوٹ ہیں، دونوں کا احصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے بھی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل کالا جائے۔ اس موقف کی حمایت میں بھی کرتا ہے۔ اس میں میں کہا ہے کہ افغان تاریخ کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور میں اسٹریجیکٹ شراکت

داری کے لیے افغان تاریخ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

TRANSLATION - 2019

Pakistan is determined to establish peace ~~in~~ Afghanistan because peace in the latter is of great importance to Pakistan. If ~~one~~ sees from a historical lens, both countries are bound up with historic, cultural, and linguistic relations due to their existence as neighbours and their Islamic nature. Such relations are unbreakable because of their underlying foundations on one another and keeping the relation is necessary for co-existence. From day one, Pakistan has ~~been~~ wanted to solve the Afghan problem through political negotiations. China also supports Pakistan's stance. In this context, China has said that the solution to Afghan conflict is only possible under the supervision of Afghan leadership. For strategic cooperation, Pakistan and China will play their role in solving the Afghan disputes, conflict.

7/10 good.